



سوال

(322) فجر کی جماعت کھڑی ہو تو پہلے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے پھر سنت ادا کرنی چاہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

صبح کی جماعت ہو رہی ہے اور کوئی شخص آکر جماعت میں شریک ہو کر نماز ادا کر لے لیکن فجر کی سنت باقی رہ گئی ہوں تو یہ سنت کب ادا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سے علیحدہ ہو کر سنت پڑھ لے پھر جماعت میں شریک ہو۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جس کوئی شخص مسجد میں اس حال میں پہنچے کہ جماعت ہو رہی ہو یا اقامت شروع ہو چکی ہے تو سنت پڑھنی جائز نہیں نہ صفت کے ساتھ مل کر نہ صفت سے الگ اور نہ کھینچے کی آڑ میں نہ مسجد کے اندر مسجد سے متصل کسی حجرے یا برآمدے میں نہ مسجد سے باہر اس کے دروازے پر کہ فرض کے بجائے اس سے کم درجہ کسی چیز سنت میں مشغول ہونا معمولی عقل کے بھی خلاف ہے۔ سنت کی طرح کوئی دوسری چھوٹی ہوئی فرض بھی پڑھنی اس وقت جائز نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إذا قیمت الصلوة وفی روایة إذا أخذ المؤمن فی الاقامة فلا صلاة الا المكتوبة التي اقيمت (احمد وغیرہ)

پس فجر کی اقامت شروع ہو جانے کے بعد فجر کی سنت نہیں پڑھنی چاہیے۔

قال الحافظ وزاد مسلم بن خالد بن عمرو بن دینار فی هذا الحدیث قیل یا رسول اللہ ولا رکعتی الفجر قال ولا رکعتی الفجر أخرجه ابن عدی فی ترجمته یحیی بن نصر بن حاجب واسنادہ حسن انتھی قال شینئانی شرح الترمذی والحدیث یدل علی انه لا یجوز الشروع فی النافلة عند اقامة الصلوة من غیر فوق بین رکعتی الفجر وغیرهما انتھی اور صحیح مسلم البوداؤد ونسائی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسرج سے مروی ہے۔

قال دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلوة الغداة فصلى رکعتین فی جانب المسجد ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فلان ہای الصلاتین اعتمدت ابصلا تک وحدک أم بصلانک معنا

جس شخص کی فجر کی سنت جماعت میں شامل ہو جانے کی وجہ سے پھوٹ جائے وہ اس سنت کو فرض سے فارغ ہو کر قبل آفتاب طلوع ہونے کے پڑھ سکتا ہے۔ (ابن حبان، ابن خزیمہ، بیہقی، ترمذی۔ البوداؤد عن قیس بن عمرو بن سہل الانصاری) (محدث دہلی جلد ۹ شماره نمبر ۱۲)



مجلس البحث والدراسات
محدث فتوى
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

فتاویٰ علمائے حدیث

کتاب الصلاة جلد 1 ص 148-149

محدث فتویٰ